



## AlAnkaboot

## العنكبوت

## أَلْعَنْكَبُوت

In the name of Allah,  
Most Gracious, Most  
Merciful.

اللہ کے نام سے جو بہت مہربان  
نہایت رحم والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. Alif. Lam. Mim.

الْم -

الْم ﴿١﴾

2. Do people think that  
they will be left alone  
because they say: We  
believed, and they will  
not be tested.

کیا لوگ خیال کرتے ہیں کہ چھوڑ دیئے  
جائیں گے یہ کہنے سے کہ ہم ایمان  
لائے اور وہ نہیں آزمائے جائیں گے۔

أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ  
يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴿٢﴾

3. And certainly, We  
tested those who were  
before them. Thus  
Allah will certainly  
know those who are  
truthful, and He will  
certainly know those  
who lie.

اور یقیناً ہم نے آزمایا تھا انکو جو تھے  
ان سے پہلے تو اللہ ضرور معلوم  
کر لے گا انکو جو سچے ہیں اور وہ ضرور  
معلوم کر لے گا انکو جو جھوٹے ہیں۔

وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِينَ صَدَقُوا  
وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ﴿٣﴾

4. Or do they think,  
those who do evil  
deeds that they can  
outstrip Us. Evil is  
what they judge.

کیا سمجھتے ہیں وہ جو کرتے ہیں برے  
کام کہ یہ ہمارے قابو سے نکل جائیں  
گے۔ برا ہے جو حکم یہ لگاتے ہیں۔

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ  
السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا  
يَحْكُمُونَ ﴿٤﴾

5. Whoever hopes to  
meet with Allah. Then  
indeed, time appointed  
by Allah is coming. And

جو امید رکھتا ہو ملاقات کی اللہ سے تو  
یقیناً اللہ کا مقرر کردہ وقت آئیوا لہے

مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللّٰهِ فَإِنَّ  
أَجَلَ اللّٰهِ لَا تِ وَهُوَ السَّمِیْعُ

He is the All Hearer,  
the All Knower.

- اور وہ ہے سُننے والا جاننے والا -

الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

6. And whoever  
strives, so only he  
strives for himself.  
Indeed, Allah is free of  
all needs from all  
peoples.

اور جو محنت کرتا ہے تو صرف محنت  
کرتا ہے اپنے لئے۔ بیشک اللہ بے  
نیاز ہے سارے جہان والوں سے۔

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ  
لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  
الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾

7. And those who  
believed and did  
righteous deeds, We  
shall surely remove  
from them their evil  
deeds, and We shall  
surely reward them  
the best of what they  
used to do.

اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے  
نیک اعمال ہم ضرور دور کر دیں گے  
ان سے انکی برائیوں کو اور ضرور جزا  
دیں گے ہم انکو بہت بہتر انکی جو  
اعمال وہ کرتے تھے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ  
سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ  
الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٦٢﴾

8. And We have  
enjoined upon man  
kindness to his  
parents. And if they  
strive with you to  
make you join with Me  
that you do not have  
about which any  
knowledge, then do  
not obey them. To Me  
is your return, then I  
shall surely inform you  
about what you used  
to do.

اور وصیت کی ہم نے انسان کو  
اسکے والدین کے ساتھ نیک سلوک  
کی۔ اور اگر وہ زور ڈالیں تجھ پر کہ  
شریک بنائے تو میرے ساتھ اسکا  
نہیں تجھے جسکے بارے میں کوئی علم  
تو نہ اطاعت کر تو انکی۔ میری ہی  
طرف تم کو لوٹ کر آنا ہے پھر میں  
بتا دوں گا تم کو جو کچھ تم کرتے تھے۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ  
حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ  
بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا  
تُطِعْهُمَا إِلَىٰ مَرَجِعِكَ فَانْبِئْهُمْ  
بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٦٣﴾

9. And those who  
believed and did  
righteous deeds, We  
will surely admit them

اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے  
نیک اعمال ہم ضرور داخل کریں گے

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي

among the righteous.

انکو نیکوں میں۔

الصَّالِحِينَ ﴿١﴾

10. And among mankind are those who say: We believed in Allah. Then, when they were made to suffer in the cause of Allah, they considered the persecution of mankind as the punishment of Allah. And if came a victory from your Lord, they will surely say: Indeed, we were with you. Is not Allah best aware of what is in the breasts of all peoples.

اور لوگوں میں وہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر پھر جب ایذا دی گئی انکو اللہ کی راہ میں تو سمجھا انہوں نے لوگوں کی ایذا کو جیسے عذاب اللہ کا۔ اور اگر پہنچے مدد تمہارے رب کی طرف سے تو وہ ضرور کہیں گے کہ یقیناً تمھے ہم تو تمہارے ساتھ۔ اور کیا نہیں ہے اللہ خوب واقف اس سے جو سینوں میں ہے جہاں والوں کے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْلَىٰ ۗ أَلَا يَعْلَمُ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴿١﴾

11. And will surely know Allah those who believed, and He will surely know the hypocrites.

اور ضرور معلوم کرے گا اللہ ان کو جو ایمان لائے اور وہ ضرور معلوم کرے گا منافقوں کو۔

وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ ﴿٢﴾

12. And said those who disbelieved to those who believed: Follow our way, and we will carry your sins. And not at all, they will carry from their sins anything. Indeed, they are the liars.

اور کہا انہوں نے جنہوں نے کفر کیا ان سے جو ایمان لائے کہ اتباع کرو ہمارے طریقے کی اور ہم اٹھالیں گے تمہارے گناہ۔ اور بالکل نہیں وہ اٹھانے والے انکے گناہوں میں سے کچھ بھی۔ بیشک وہ ہیں جھوٹے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَ لَنَحْمِلَ خَطِيئَتَكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطِيئَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴿٣﴾

13. And they will surely carry their own

اور یہ ضرور اٹھائیں گے اپنے بوجھ اور

وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا

burdens and other burdens along with their own burdens, and they will surely be questioned on the day of judgment about what they used to invent.

دوسرے بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ اور ان سے ضرور پوچھا جائیگا قیامت کے دن اسکے بارے میں جو جھوٹ یہ گھڑتے تھے۔

مَعَ أَثْقَالِهِمْ ۖ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿١٣﴾

14. And indeed, We sent Noah to his people, so he stayed among them one thousand less fifty years. Then engulfed them the flood while they were wrongdoers.

اور بیشک بھیجا ہم نے نوح کو اسکی قوم کی طرف تو وہ رہا ان میں ایک ہزار سال کم پچاس سال۔ پھر آپکڑا انکو طوفان نے جبکہ وہ تھے ظالم۔

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَ هُمْ ظَالِمُونَ ﴿١٤﴾

15. Then We rescued him and the companions of the ship, and We made it a sign for all peoples.

پھر ہم نے نجات دی اسکو اور کشتی والوں کو اور بنا دیا ہم نے اسکو نشانی جہان والوں کے لئے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿١٥﴾

16. And Abraham, when he said to his people: Worship Allah and fear Him. That is better for you if you should understand.

اور ابراہیم کہ جب کہا اس نے اپنی قوم سے کہ عبادت کرو اللہ کی اور اس سے ڈرو۔ یہ ہے بہتر تمہارے لئے اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔

وَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ اتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

17. In fact, you worship, other than Allah, idols, and you invent a falsehood. Indeed, those whom you worship other than Allah have no power to give you provision, so seek from

در حقیقت تم پوجتے ہو سوائے اللہ کے بتوں کو اور گھڑتے ہو تم جھوٹ۔ بیشک وہ جن کو تم پوجتے ہو سوائے اللہ کے نہیں رکھتے وہ اختیار تمکو رزق دینے کا۔ پس طلب

إِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَ تَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ

Allah provision, and worship Him, and be grateful to Him. To Him you will be brought back.

کرو اللہ ہی سے رزق اور اسی کی عبادت کرو اور شکر کرو اسی کا۔ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٧﴾

18. And if you deny, then certainly have denied nations before you. And it is not upon the Messenger except to convey clearly.

اور اگر تم جھٹلاتے ہو تو بیشک تکذیب کر چکی ہیں امتیں تم سے پہلے۔ اور نہیں رسول کے ذمے مگر پہنچا دینا کھول کر۔

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿٧٨﴾

19. And have they not seen how Allah originates the creation, then He repeats it. Indeed, that is for Allah easy.

اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کیسے ابتدا کرتا ہے اللہ خلقت کی پھر اسکا اعادہ کرتا ہے۔ یقیناً یہ ہے اللہ کو آسان۔

أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٧٩﴾

20. Say: Travel in the land then see how He originated the creation, then Allah will bring creation a second time. Indeed, Allah, over all things, is powerful.

کھدو چلو پھر زمین میں پھر دیکھو کس طرح ابتدا کی ہے اس نے تخلیق کی پھر اللہ لے آئے گا خلقت دوسری بار۔ بیشک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٨٠﴾

21. He punishes whom He wills, and He shows mercy upon whom He wills. And to Him you will be turned back.

وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور رحم کرتا ہے جس پر چاہتا ہے۔ اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿٨١﴾

22. And you cannot frustrate Him in the earth, nor in the heaven. And there is none for you, other

اور نہیں تم اسکو عاجز کر سکتے زمین میں اور نہ آسمان میں۔ اور نہیں ہے تمہارا سوا اللہ کے کوئی دوست

وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ

than Allah, any friend, nor a helper.

اور نہ مددگار۔

وَلَا نَصِيرٌ ﴿١٢﴾

23. And those who denied the revelations of Allah and in meeting with Him, it is they who have despaired of My mercy, and it is they who will have a painful punishment.

اور وہ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیتوں سے اور اس سے ملاقات کا وہی ہیں جو ناامید ہو گئے ہیں میری رحمت سے اور وہی ہیں جن کے لئے ہے عذاب درد دینے والا۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَ لِقَائِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٣﴾

24. So there was no answer of his people except that they said: Kill him or burn him. Then Allah saved him from the fire. Indeed, in that are sure signs for a people who believe.

تو نہ تھا جواب اسکی قوم کا مگر یہ کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر ڈالو یا جلادو۔ پس بچا لیا اسے اللہ نے آگ سے۔ یقیناً اس میں میں واضح نشانیاں انلوگوں کے لئے جو ایمان رکھتے ہیں۔

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿١٤﴾

25. And he (Abraham) said: In fact, you have taken other than Allah idols, a means of love among yourselves in the life of the world. Then on the day of resurrection, will deny among you each other, and will curse among you each other, and your abode will be the fire, and you shall not have any helpers.

اور اس (ابراہیم) نے کہا درحقیقت جو تم لے بیٹھے ہو سوائے اللہ کے بتوں کو محبت کا ذریعہ تمہارے آپس کے درمیان دنیا کی زندگی میں۔ پھر قیامت کے دن انکار کریگا تم میں ایک دوسرے کا اور لعنت بھیجے گا ایک دوسرے پر اور ہو گا تمہارا ٹھکانہ دوزخ اور نہ ہو گا تمہارا کوئی مددگار۔

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ ﴿١٥﴾

26. So believed in him Lot. And he said: Indeed, I shall migrate

پس ایمان لایا اس پر لوط اور کہا اس نے بیشک میں ہجرت کرنے والا

فَأَمَّنَ لَهُ لُوطٌ وَ قَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ

towards my Lord. Indeed, He is the All Mighty, the All Wise.

ہوں اپنے رب کی طرف۔ بیشک وہ ہے غالب حکمت والا۔

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٦٦﴾

27. And We bestowed on him Isaac and Jacob, and We placed in his progeny the prophethood and the scripture, and We gave him his reward in the world. And indeed he is, in the Hereafter, among the righteous.

اور عطا کئے ہم نے اسکو اسحق اور یعقوب اور ہم نے رکھ دی اس کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب اور عنایت کیا ہم نے اسکو اسکا صلہ دنیا میں۔ اور یقیناً وہ ہے آخرت میں نیک لوگوں میں۔

وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٧﴾

28. And Lot, when he said to his people: Indeed, you commit lewdness. None has done before you this, any one from among all the peoples.

اور لوط کہ جب کہا اس نے اپنی قوم سے بلاشبہ تم مرتکب ہوتے ہو بے حیائی کے۔ نہیں کیا تم سے پہلے ایسا کسی نے جہان والوں میں سے۔

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٦٨﴾

29. Do you indeed approach males, and commit robbery and indulge, in your assemblies, in indecencies. So there was no answer from his people except that they said: Bring upon us the punishment of Allah if you are among the truthful.

بلاشبہ کیا تم مانل ہوتے ہو مردوں کی طرف اور راہزنی کرتے ہو۔ اور تم مرتکب ہوتے ہو اپنی مجلسوں میں ناپسندیدہ کاموں کے۔ تو نہ تھا جواب اسکی قوم کا سوائے یہ کہ کہا انہوں نے تو لے آؤ ہم پر عذاب اللہ کا اگر تم ہو سچوں میں سے۔

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَتَيْنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦٩﴾

30. He said: My Lord, help me against

کہا اس نے میرے رب میری مدد

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي عَلَى الْقَوْمِ ﴿٧٠﴾

those people who are mischief makers.

فرما انلوگوں کے خلاف جو مفسد ہیں۔

الْمُفْسِدِينَ ﴿٢٠﴾

31. And when came Our messengers to Abraham with the good tidings, they said: Indeed, we are about to destroy the people of that township. Indeed, its people are wrong doers.

اور جب آئے ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت کے ساتھ تو کہنے لگے یقیناً ہم ہلاک کر دینے والے ہیں لوگوں کو اُس بستی کے۔ بیشک اس کے لوگ ظالم ہیں۔

وَ لَمَّا جَاءَتْ مُرْسَلَنَا اِبْرٰهِيْمَ  
بِالْبَشْرٰى قَالُوْۤا اِنَّا مُهْلِكُوْۤا  
اَهْلَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ اِنَّ اَهْلَهَا  
كَانُوْۤا ظٰلِمِيْنَ ﴿٢١﴾

32. He said: Indeed, in there is Lot. They said: We are best aware of who is in there. We shall surely save him and his household, except his wife, she will be of those who stay behind.

کہا اُسے بیشک اسمیں ہے لوط انہوں نے کہا ہمیں خوب معلوم ہے اسمیں کون ہے۔ ہم ضرور بچالیں گے اسکو اور اسکے گھر والوں کو بجز اسکی بیوی کے وہ ہوگی پیچھے رہنے والوں میں۔

قَالَ اِنَّ فِيْهَا لُوْطًا قَالُوْۤا نَحْنُ  
اَعْلَمُ بِمَنْ فِيْهَا <sup>وَقَفَّةً</sup> لَنُنَجِّيْنَهٗ  
وَ اَهْلَهٗ اِلَّا اَمْرٰتَهٗ <sup>نَفْسًا</sup> كَانَتْ مِّنَ  
الْغٰبِرِيْنَ ﴿٢٢﴾

33. And that when came Our angels to Lot, he was grieved because of them, and felt distressed due to them at heart. And they said: Do not fear, nor grieve. Indeed, we will save you and your family, except your wife, she will be of those who stay behind.

اور یہ کہ جب آئے ہمارے فرشتے لوط کے پاس تو وہ پریشان ہوا انکی وجہ سے اور تنگدل ہوا ان سے جی میں۔ اور کہا انہوں نے نہ کر خوف اور نہ کر رنج۔ یقیناً ہم بچالیں گے تجھ کو اور تیرے گھر والوں کو مگر تیری بیوی کہ ہوگی وہ پیچھے رہنے والوں میں۔

وَلَمَّا اَنَّ جَاءَتْ مُرْسَلَنَا لُوْطًا سِيْءًا  
بِهِمْ وَ ضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَّ قَالُوْۤا  
لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ اِنَّا مُنْجُوْكَ  
وَ اَهْلِكَ اِلَّا اَمْرٰتَكَ كَانَتْ مِّنَ  
الْغٰبِرِيْنَ ﴿٢٣﴾

34. Indeed, we are about to bring down upon the people of this

بیشک ہم نازل کرنے والے ہیں لوگوں پر اس بستی کے عذاب آسمان

اِنَّا مُنْزِلُوْنَ عَلٰى اَهْلِ هٰذِهِ  
الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا



township a torment from the sky because they have been disobedient.

سے اس سبب سے کہ وہ نافرمانی کرتے رہے ہیں۔

كَانُوا اَيْفُسُقُونَ ﴿٢٤﴾

35. And certainly, We have left in it a clear sign for a people who understand.

اور یقیناً ہم نے چھوڑ دی اس میں ایک کھلی نشانی ان لوگوں کے لئے جو سمجھ رکھتے ہیں۔

وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٥﴾

36. And to Midian (We sent) their brother, Shuaib. So he said: O my people, worship Allah, and hope for the last day, and do not go about on the earth, spreading corruption.

اور مدین کی طرف (ہم نے بھیجا) انکے بھائی شعیب کو تو کہا اس نے اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی اور امید رکھو روز آخرت کی اور نہ پھرو زمین میں فساد پھیلاتے۔

وَ اِلَى مَدْيَنَ اَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَ لَا تَتَعَثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ﴿٢٦﴾

37. So they denied him, then seized them, the dreadful earthquake so they became, in their dwelling places, as lying prostrate.

تو انہوں نے جھٹلایا اسکو سو آپکڑا انکو سخت زلزلے نے تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اونڈھے پڑے ہوئے۔

فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذْنَاهُمُ الرِّجْفَةَ فَاَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَثْمِيْنَ ﴿٢٧﴾

38. And (We destroyed) Aad and Thamud. And indeed, it has become manifest to you from their dwellings. And made seem fair to them Satan their deeds, so kept them away from the right path, though they were sensible people.

اور (ہم نے ہلاک کر دیا) عاد اور ثمود کو۔ اور یقیناً واضح ہو گیا ہے یہ تم پر انکے ٹھکانوں سے۔ اور آراستہ کر دکھائے انکے لئے شیطان نے انکے اعمال تو روک دیا انکو سیدھے راستے سے۔ حالانکہ وہ تھے ہوشیار لوگ۔

وَ اٰدًا وَ ثَمُوْدًا وَ قَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِّنْ مَّسْكِنِهِمْ<sup>٢٨</sup> وَ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمٰهُمُ فَصَدَّاهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَ كَانُوْا مُسْتَبْصِرِيْنَ ﴿٢٨﴾

**39. And Korah, and Pharaoh and Haman (We destroyed also). And indeed, came to them Moses with clear signs. But they were arrogant in the land. And they could not outrun Us.**

اور قارون اور فرعون اور ہامان (کو بھی ہلاک کر دیا)۔ اور یقیناً آیا تھا ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیوں کے ساتھ تو انہوں نے تکبر کیا زمین میں اور وہ نہ تھے آگے نکل جانے والے ہم سے۔

وَقَارُونَ وَ فِرْعَوْنَ وَ هَامَانَ  
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَأَسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا  
سَابِقِينَ ﴿٣٩﴾

**40. So everyone, We seized for his sin. Then among them were those We sent upon whom a storm of stones. And among them were those who were seized by the blast. And among them were those, We caused them to be swallowed by the earth. And among them were those whom We drowned. And it was not for Allah to wrong them, but they were being, to themselves, unjust.**

تو ہر ایک کو پکڑ لیا ہم نے اسکے گناہ کے سبب۔ سو ان میں وہ تھے بھیجی ہم نے جن پر پتھروں کی بارش۔ اور ان میں وہ تھے آپکڑا جنکو ایک دھماکے نے۔ اور ان میں وہ تھے دھسا دیا ہم نے جنکو زمین میں۔ اور ان میں وہ تھے جنکو غرق کر دیا ہم نے۔ اور نہ ایسا تھا اللہ کہ ان پر ظلم کرتا لیکن وہ ہی کرتے تھے اپنی جانوں پر ظلم۔

فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذُنُوبِهِ فَمِنْهُمْ مَّنْ  
أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَّنْ  
أَخَذْتُهُ الصَّيْحَةُ ۖ وَمِنْهُمْ مَّنْ  
خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَّنْ  
أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ  
وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ  
يُظْلِمُونَ ﴿٤٠﴾

**41. The likeness of those who have taken other than Allah patrons is as the likeness of the spider, who builds a house. And indeed, the frailest of the houses is the house of a spider. If they only knew.**

مثال ان کی جنہوں نے بنا رکھے ہیں اللہ کے سوا کارساز ایسی ہے مثال جیسے مکڑی۔ وہ بناتی ہے ایک گھر۔ اور بیشک سب سے کمزور گھروں میں گھر ہے مکڑی کا۔ کاش وہ جانتے ہوتے۔

مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ  
اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ  
الَّتِي اتَّخَذَتْ بَيْتًا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ  
الْبَيْوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ  
كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿٤١﴾

**42. Indeed, Allah knows what they call upon other than Him any thing. And He is the All Mighty, the All Wise.**

یقیناً اللہ جانتا ہے جو وہ پکارتے ہیں اس کے سوا کسی بھی چیز کو۔ اور وہ ہے غالب حکمت والا۔

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٤٢﴾

**43. And these parables, We set forth them for mankind. And none understand them except those with knowledge.**

اور یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں انہیں لوگوں کے لئے۔ اور نہیں سمجھتے انہیں مگر وہ جو اہل علم ہیں۔

وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴿٤٣﴾

**44. Allah created the heavens and the earth with truth. Indeed, in that is a sure sign for those who believe.**

پیدا کیا ہے اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ بیشک اس میں ہے واضح نشانی ایمان والوں کے لئے۔

خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٤﴾

**45. Recite that which has been revealed to you of the Book, and establish the prayer. Indeed, the prayer restrains from lewdness and iniquity. And surely the remembrance of Allah is greater. And Allah knows what you do.**

پڑھا کرو جو وحی کی گئی ہے تمہاری طرف بطور کتاب اور قائم کرو نماز۔ بیشک نماز روکتی ہے بے حیائی سے اور بری باتوں سے۔ اور بیشک ذکر اللہ کا سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

أَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿٤٥﴾

**46. And do not argue with the people of the Scripture except in a way that is better. Except with those who do wrong among them. And say: We believe in that which has been**

اور نہ بحث کرو اہل کتاب سے مگر ایسے طریق سے جو ہو نہایت اچھا۔ سوائے ان کے جو ظالم ہیں ان میں سے اور کہدو ہم ایمان رکھتے ہیں اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف اور جو

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ <sup>ط</sup> إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِهْنَا

revealed to us and revealed to you. And our God and your God is One, and we are to Him surrendering.

نازل کیا گیا تمہاری طرف اور ہمارا معبود اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔

وَالَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿٤٦﴾

47. And thus We have revealed to you the Book. Then those to whom We gave the Scripture believe in it. And of these there are some who believe in it. And none deny Our revelations except those who are disbelievers.

اور اسی طرح ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف کتاب۔ تو وہ جنکو دی تھی ہم نے کتاب وہ ایمان لاتے ہیں اسپر۔ اور انہیں وہ میں جو ایمان لاتے ہیں اسپر۔ اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں سے مگر وہ جو کافر ہیں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَ مِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿٤٧﴾

48. And you did not read before it of any book, nor did you write it with your right hand. For then, must have doubted, those who follow falsehood.

اور نہیں پڑھتے تھے تم اس سے پہلے کوئی کتاب اور نہ لکھتے تھے اسے اپنے دائیں ہاتھ سے۔ تب تو ضرور شک کرتے اہل باطل۔

وَمَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكُمْ إِذْ الْأَرْحَابُ الْمُبِطُونَ ﴿٤٨﴾

49. But these are clear revelations in the hearts of those who have been given knowledge. And none deny Our revelations except the wrong doers.

بلکہ یہ میں روشن آیتیں سینوں میں ان کے جنہیں دیا گیا ہے علم۔ اور نہیں انکار کرتے ہیں ہماری آیتوں سے مگر وہ جو ظالم ہیں۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿٤٩﴾

50. And they say: Why are not sent down upon him signs from his Lord. Say: In fact, the signs are with Allah, and I am only a

اور وہ کہتے ہیں کیوں نہیں نازل کی گئیں اسپر نشانیاں اسکے رب کی طرف سے۔ کہدو در حقیقت نشانیاں اللہ کے پاس ہیں۔ اور میں تو صرف

وَقَالُوا لَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿٥٠﴾

plain warner.

خبردار کرنے والا ہوں کھلے طور پر۔

51. And is it not sufficient for them that We have sent down upon you the Book which is recited to them. Indeed, in that is a sure mercy and a reminder for a people who believe.

اور کیا یہ نہیں کافی ان کے لئے کہ ہم نے نازل کی تم پر کتاب جو پڑھی جاتی ہے ان پر۔ بیشک اسمیں ہے یقینی رحمت اور نصیحت ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
يُؤْمِنُونَ ﴿٥١﴾

52. Say: Sufficient is Allah between me and you as a witness. He knows what is in the heavens and the earth. And those who believed in falsehood and disbelieved in Allah, they are those who are the losers.

حمد و کافی ہے اللہ میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ اور وہ جنہوں نے مان لیا باطل کو اور کفر کیا اللہ سے وہ لوگ ہی ہیں نقصان اٹھانے والے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  
شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ  
هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٥٢﴾

53. And they ask you to hasten on the punishment. And if it was not for a term appointed, there would assuredly have come to them the punishment. And it will surely come upon them suddenly while they perceive not.

اور جلدی کر رہے ہیں وہ تم سے عذاب کے لئے۔ اور اگر نہ ایک وقت مقرر ہوتا تو بیشک آگیا ہوتا ان پر عذاب۔ اور وہ ضرور آ کر رہے گا انپر اچانک جبکہ انکو معلوم نہ ہوگا۔

وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْ  
لَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ  
وَلَيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَ هُمْ لَا  
يَشْعُرُونَ ﴿٥٣﴾

54. They ask you to hasten the punishment. And indeed, Hell will be encompassing the disbelievers.

یہ جلدی کر رہے ہیں تم سے عذاب کے لئے اور یقیناً دوزخ گھیر لینے والی ہے کافروں کو۔

يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَ إِنَّ  
جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿٥٤﴾

55. On the day shall cover them the punishment from above them and from underneath their feet, and will say: Taste for what you used to do.

جس دن ڈھانک لے گا انکو عذاب انکے اوپر سے اور انکے پیروں کے نیچے سے اور فرمائے گا کہ مزہ چکھو اس کا جو تم کیا کرتے تھے۔

يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَ يَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٥﴾

56. O my slaves, those who have believed, indeed, My earth is spacious, so only, worship Me.

اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو بیشک میری زمین فراخ ہے تو صرف میری عبادت کرو۔

يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

57. Every soul shall taste the death. Then to Us you shall be returned.

ہر نفس مزہ چکھے گا موت کا۔ پھر ہماری طرف تم واپس لائے جاؤ گے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿٥٧﴾

58. And those who believed and did righteous deeds, We will surely lodge them in the garden of lofty dwellings, flowing underneath of which rivers, abiding therein. Excellent is the reward for those who do good.

اور وہ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال ضرور جگہ دیں گے ہم انکو بہشت میں بلندو بالا محلوں کے۔ بہ رہی ہونگی جنکے نیچے نہریں۔ ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں۔ عمدہ اجر ہے نیک عمل کرنے والوں کا۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿٥٨﴾

59. Those who are patient, and in their Lord, put their trust.

وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں۔

الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿٥٩﴾

60. And how many of creatures are there that do not carry their provisions. Allah provides for them and for you. And He is the

اور کتنے ہی جاندار ہیں جو نہیں اٹھا کر رکھتے اپنا رزق۔ اللہ ہی رزق دیتا ہے انکو اور تمکو۔ اور وہ ہے سننے والا

وَ كَآيِنٍ مِّنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٦٠﴾

All Hearer, the All  
Knower.

جاننے والا۔

61. And if you ask them: Who created the heavens and the earth, and subjected the sun and the moon. They would surely say: Allah. Then where are they turned away.

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو۔ اور زیر فرمان کر دیا سورج اور چاند کو تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو پھر کہاں یہ اٹے جا رہے ہیں۔

وَ لَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ فَاَنۢی یُؤْفَكُوْنَ ﴿٦١﴾

62. Allah enlarges the provision for whom He wills of His slaves and straitens for whom (He wills). Indeed, Allah is, of all things, the All Knower.

اللہ فراخ کر دیتا ہے رزق جسکے لئے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں اور تنگ کر دیتا ہے جسکے لئے (وہ چاہتا ہے)۔ بیشک اللہ ہے ہر چیز سے باخبر۔

اللّٰهُ یَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَ یَقْدِرُ لَهٗ اِنَّ اللّٰهَ بِکُلِّ شَیْءٍ عَلِیْمٌ ﴿٦٢﴾

63. And if you ask them: Who caused water to come down from the sky, then with it revived the earth after its death. They would surely say: Allah. Say: All the praise be to Allah. But most of them do no understand.

اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے برسایا آسمان سے پانی پھر زندہ کیا اس سے زمین کو بعد اسکے مرنے کے۔ تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ کہدو کہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہے۔ لیکن ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے۔

وَ لَیْنِ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَآحٰیَا بِهٖ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِ مَوْتِهَا لَیَقُوْلُنَّ اللّٰهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا یَعْقِلُوْنَ ﴿٦٣﴾

64. And nothing is this life of the world but an amusement and play. And indeed, the home of the Hereafter, that is indeed the life, if they only knew.

اور نہیں یہ زندگی دنیا کی مگر کھیل اور تماشا۔ اور یقیناً آخرت کا گھر بیشک وہی ہے ہمیشہ کی زندگی۔ کاش وہ جانتے۔

وَ مَا هٰذِهِ الْحَیٰوةُ الدُّنْیَا اِلَّا هُوَ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الدَّارَ الْاٰخِرَةَ لَهٰی الْحَیٰوةُ لَوْ کَانُوْا یَعْلَمُوْنَ ﴿٦٤﴾

65. Then when they embark on a ship, they call on Allah, making sincere for Him faith. Then when He brings them safely to land, then, they ascribe partners.

پھر جب یہ سوار ہوتے ہیں کشتی میں تو پکارتے ہیں اللہ کو خالص کر کے اسی کیلئے دین کو۔ پھر جب وہ انکو نجات دیتا ہے خشکی کی طرف تو تب وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴿١٥﴾

66. That they may show ingratitude for what We gave them, and that they may take their enjoyment. Then soon they will come to know.

تاکہ ناشکری کریں اسکی جو ہم نے انکو بخشا ہے اور تاکہ وہ فائدہ اٹھالیں۔ سو عنقریب انکو معلوم ہو جائے گا۔

لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿١٦﴾

67. And have they not seen that We have appointed a sanctuary secure, and that are being snatched away men from all around them. So in falsehood do they believe, and in the bounty of Allah they disbelieve.

اور کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ ہم نے بنایا ہے حرم کو مقام امن۔ اور اچک لئے جاتے ہیں لوگ اسکے گرد و نواح سے۔ تو کیا باطل پر یہ اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمت سے انکار کرتے ہیں۔

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ أَفِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِإِنْعَامِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾

68. And who does a greater wrong than him who invents about Allah a lie, or denies the truth when it comes to him. Is not there in Hell a dwelling for the disbelievers.

اور کون ہے بڑا ظالم اس سے جو بہتان باندھے اللہ پر جھوٹ کا یا تکذیب کرے حق کی جب وہ اسکے پاس آئے۔ کیا نہیں ہے جہنم میں ٹھکانہ کافروں کا۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿١٨﴾

69. And those who strove for Us, We will

اور وہ جنہوں نے جدوجہد کی ہماری خاطر

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا



surely guide them to  
Our paths. And  
indeed, Allah is surely  
with the righteous.

ہم ان کو ضرور ہدایت میں گے اپنے  
راستوں پر۔ اور بیشک اللہ یقیناً ساتھ  
ہے نیکو کاروں کے۔

لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ  
الْمُحْسِنِينَ

